



## سوال

(963) سگریٹ اور تباکو کے استعمال اور خرید و فروخت

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سگریٹ اور تباکو کے استعمال اور خرید و فروخت کے بارے تفصیل سے وضاحت کریں۔ (محمد ارشد)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) [4] ”ہر نشہ لانے والا حرام ہے۔“ [اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خُمْرٌ)) [5] ”ہر نشہ لانے والا خمر ہے۔“ [اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر میں خرید و فروخت تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ 6 والہ اعلم

4. بخاری، کتاب المغازی، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع۔ مسلم، کتاب الاشریہ، باب بیان ان کل مسکر خمر وان کل خمر حرام۔

5. بخاری، کتاب البیوع، باب تحريم التجارة فی الخمر۔

6. مسلم، کتاب الاشریہ، باب بیان ان کل مسکر خمر وان کل خمر حرام۔ 7. مشکوٰۃ، کتاب البیوع، باب الربا، الفصل الثالث۔

## قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 02 ص 669

محدث فتویٰ